

محرم اور نامحرم رشتے
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں
کہ مرد یا عورت کے لیے کونسے رشتہ دار محرم ہیں اور کونسے نامحرم ہیں
سائلہ ایک بہن انگلینڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

وہ رشتے جن سے مرد کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ اس مرد کے محرم ہیں
یعنی 1 ماں، 2 بیٹی، 3 بہن، 4 پھوپھی، 5 خالہ، 6 بھتیجی، 7 بھانجی۔
ماں کی وضاحت دادی، نانی، پردادی، پر نانی اگرچہ کتنی ہی اوپر کی ہوں سب محرم
ہیں اور یہ سب ماں میں داخل ہیں کہ یہ باپ یا ماں یا دادا، دادی، نانا، نانی کی مائیں
ہیں کہ ماں سے مراد وہ عورت ہے، جس کی اولاد میں یہ ہے بلا واسطہ یا بواسطہ۔
بیٹی کی وضاحت اور بیٹی سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اس کی اولاد ہیں۔ لہذا پوتی،
پرپوتی، نواسی، پر نواسی اگرچہ درمیان میں کتنی ہی پشتوں کا فاصلہ ہو سب محرم
ہیں۔

بہن کی وضاحت اور بہن خواہ حقیقی ہو یعنی ایک ماں باپ سے یا سوتیلی کہ باپ
دونوں کا ایک ہے اور مائیں دو یا ماں ایک ہے اور باپ دو سب محرم ہیں۔
پھوپھی اور خالہ کی وضاحت باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، وغیرہم اصول کی
پھوپھیاں یا خالائیں اپنی پھوپھی اور خالہ کے حکم میں ہیں۔ خواہ یہ حقیقی ہوں یا سوتیلی۔
یوہیں حقیقی یا علاتی پھوپھی کی پھوپھی یا حقیقی یا اخیافی خالہ کی خالہ۔
بھتیجی اور بھانجی کی وضاحت بھتیجی، بھانجی سے بھائی، بہن کی اولادیں مراد
ہیں، ان کی پوتیاں، نواسیاں بھی اسی میں شمار ہیں۔ اور اسی طرح رضاعی دودھ
والے رشتہ دار کما فی بہار شریعت و الکتب العامة

جیسا کہ قرآن فرماتا ہے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ۔

حرام ہوئیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور
بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں
اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں ان بی بیوں سے جن
سے تم صحبت کر چکے ہو تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی
بیٹیوں میں حرج نہیں اور تمہاری نسلی بیٹیوں کی بیویاں -

وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

خادم دارالافتاء يوگے

Date:28-03-2020

Mahram & non-Mahram relations

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

QUESTION:

What do the scholars of Islām and Jurists of the Sacred Law state regarding the following issue: Which relations are Mahram¹ and which are non-Mahram² for males and females?

Questioner: A sister from England

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

Those relatives whom a male cannot marry are the Mahrams of a male. In other words:

- 1 - Mother
- 2 - Daughter
- 3 - Sister
- 4 - Maternal auntie
- 5 - Paternal auntie
- 6 - Fraternal niece³
- 7 - Sororal niece⁴

The meaning of 'mother': paternal grandmother, maternal grandmother, paternal great grandmother, maternal great grandmother etc regardless of the amount of those who are present further on - they are all Mahrams, and they are all included in 'mother' in the sense that they are the mother of one's father, mother, paternal grandfather, paternal grandmother, paternal grandfather, maternal grandfather or

¹ Someone whom it is unlawful to marry.

² Someone whom it is lawful to marry.

³ i.e. the daughter of one's brother.

⁴ i.e. the daughter of one's sister.

maternal grandmother. So, 'mother' refers to a woman whose offspring a person comes under, be it directly⁵ or indirectly⁶.

The meaning of 'daughter': 'Daughter' refers to a female who is amongst a person's offspring. Therefore, paternal granddaughter, paternal great granddaughter [i.e. the daughter of one's paternal granddaughter], maternal granddaughter, maternal great granddaughter [i.e. the daughter of one's maternal granddaughter] etc regardless of however many generations are in between are all Mahram.

The meaning of 'sister': A sister, regardless of whether she is a full sister i.e. from the same mother as well as the same father; or half sister i.e. they have the same father but different mothers, or the same mother but different fathers - they are all Mahram.

The meaning of 'maternal auntie' and 'paternal auntie': The maternal aunties and paternal aunties of one's own father, mother, paternal grandfather, paternal grandmother, maternal grandmother and so on are all in the ruling of one's own maternal aunties and paternal aunties. Regardless of whether they are full or half; likewise, be they the paternal auntie of one's maternal half auntie or the maternal auntie of one's paternal half auntie.

The meaning of 'fraternal niece' and 'sororal niece': Fraternal niece is the offspring of one's brother and sororal niece of one's sister; their paternal granddaughters and maternal granddaughters are also included in this as well.

Also included in this are the foster relations (due to suckling - breastfeeding), just as it is stated in Bahār-e-Sharī'at and general books.

Just as it is stated in the Holy Qur'ān,

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِيَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَتْكُمُ اللَّائِيَّاتُ فِي حُجُورِكُمْ
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِيَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

{Unlawful for you are your mothers, and your daughters, and your sisters, and your father's sisters, and your mother's sisters, and your brother's daughters and your sister's

⁵ i.e. one's own mother.

⁶ i.e. a 'mother' which involves someone in between. For example, a maternal grandmother (mother's mother), etc.

daughters, and your foster-mothers (who suckled you), and their daughters (your foster-sisters), and your wife's mothers, and your wife's daughters (your stepdaughters) who are under your care, (and the girls who are) born of the women with whom you had intercourse. So then if you had no intercourse with them, it is therefore no sin for you to marry their daughters, and (forbidden are) the wives of your own sons, and to have two sisters together (in marriage), except what has already occurred. Indeed, Allāh is Most Forgiving, Most Merciful.}

[Sūrah al-Nisā', 23]

والله تعالى أعلم ورسوله أعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه أبو الحسن محمد قاسم ضياء القادري

Answered by Muftī Qāsim Ziyā al-Qādirī

Translated by Haider Ali